

Quranic Arabic Grammar

قرآنک عربک گرامر

Lesson - I

شیخ ارشد بشیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

+91 92906 21633 (whatsapp only)

الدرس الاول

سبق

LESSON-1

الاسم واقسامه

04

Al-Ism wa Aqsamuhu
Noun and its types

حروف الهجاء

01

Huroof-ul-Hijaa
Alphabet

الفعل واقسامه

05

Al-Fel wa Aqsamuhu
Verb and its types

الحركات

02

Al-Harakaat
Vowel signs

الحرف واقسامها

06

Al-Harf wa Aqsamuhu
Particles and its types


الكلمة واقسامها

03

Al-Kalimah wa Aqsamuha
Word and its types



طِفْلٌ	طا	Taa	ط	اللّٰه	الف	Alif	ا
ظُلْمٌ	ظا	Zaa	ظ	بَقْرَةٌ	با	Baa	ب
عَبْدٌ	عين	Ayn	ع	تَوْبَةٌ	تا	Taa	ت
غَيْثٌ	غين	Ghaen	غ	ثَوَابٌ	ثا	Saa	ث
فَيْلٌ	فا	Faa	ف	جَنَّةٌ	جيم	Jeem	ج
قَمَرٌ	قاف	Qaaf	ق	حَاجٌ	حا	Haa	ح
كِتَابٌ	كاف	Kaaf	ك	خَشِيَةٌ	خا	Khaa	خ
لَيْلٌ	لام	Laam	ل	دُعَاءٌ	دال	Daal	د
مَسْجِدٌ	ميم	Meem	م	ذِكْرٌ	ذال	Zaal	ذ
نَجْمٌ	نون	Noon	ن	رَجُلٌ	را	Raa	ر
هَلَالٌ	ها	Haa	ه	زَيْتُونٌ	زا	Zaa	ز
وَجْهٌ	واؤ	Waa	و	سُنَّةٌ	سين	Seen	س
أَرْضٌ	همزه	Hamzah	ء	شَجَرَةٌ	شين	Sheen	ش
يَوْمٌ	يا	Yaa	ي	صَبْرٌ	صاد	Saad	ص
				ضَوْءٌ	ضاد	Zaad	ض



کلمہ کی تعریف: با معنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔

Kalima ki tareef: Baa-maana mufrad lafz ko kalima kehte hain


A meaningful individual word is called Kalimah

There are three types of word - Kalime ki teen qisme hain - کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔

3 حرف
Harf
Particle

2 فعل
Fel
Verb

1 اسم
Ism
Noun



الاسم

AL-ISM - NOUN

اسم کی بعض مثالیں | Some Examples of Noun

الاشیاء (چیزیں) Things iv				المكان (جگہ) Place iii		الحيوانات (جانور) Animals ii				الانسان Person i	
Pen	قلم	Qalam	قَلَمٌ	Makkah	مَكَّةُ	Camel	اونٹ	Al Jamal	أَجْمَلٌ	Muhammad	مُحَمَّدٌ
Book	کتاب	Kitaab	كِتَابٌ	Madinah	مَدِينَةٌ	Horse	گھوڑا	Al Fars	الْفَرَسُ	Abdullah	عَبْدُ اللَّهِ
Paper	ورق	Waraq	وَرَقٌ	Hyderabad	حَيْدَرَأَبَادُ	Donkey	گدھا	Al Himaar	الْحِمَارُ	Abdur Rahman	عَبْدُ الرَّحْمَنِ
Sock	جراب	Jaurab	جَوْرَبٌ	Egypt	مِصْرُ	Whale	مچھلی (ویل)	Al Hoot	الْحَوْتُتُ	Umar	عُمَرُ
Star	تارہ	Kaukab	كَوْكَبٌ	Baghdaad	بَغْدَادُ	Elephant	ہاتھی	Al Feel	الْفِيلُ	Usmaan	عُثْمَانُ
Cap	ٹوپی	Qalanswah	قَلَنْسَوَةٌ	Pakistan	بَاكِسْتَانُ	Snake	سانپ	Al Hayyah	الْحَيَّةُ	Khadeejah	خَدِيجَةُ
Meat	گوشت	Lahm	لَحْمٌ	India	الْهِنْدُ	Pig	سور	Al Khinzeer	الْخِنْزِيرُ	Aaeshah	عَائِشَةُ
Bed	پلنگ	Sareer	سَرِيرٌ	Arab	الْعَرَبُ	Monkey	بندر	Al Qirdah	الْقِرْدَةُ	Faatimah	فَاطِمَةُ
Knife	چاقو	Sikkeen	سِكِينٌ	Taaef	الطَّائِفُ	Goat	بکرا	Al Ma'z	الْمَعَزُ	Aasiyah	آسِيَّةُ
Toothpick	مسواک	Miswaak	مِسْوَاكٌ	Syria	الشَّامُ	Cow	گائے	Al Baqarah	الْبَقَرَةُ	Maryam	مَرْيَمُ

مزید اسماء کے لیے Vocabulary Book ملاحظہ فرمائیں۔

Mazeed Asma ke liye Vocabulary book Mulahaza farmaein

For more nouns refer the vocabulary book

تعریف: اسم وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، جانور، جگہ یا چیز کا نام بتائے اور اس میں تینوں زمانے (ماضی، حال اور مستقبل) نہ پائے جائیں۔

Tareef: ism wo kalimah hai jo kisi insaan, janwar, jagah ya cheez ka naam batae aur us me teeno zamane (maazi, haal aur mustaqbil) na paae jaacin

Definition: A Noun is the name of a person, animal, place or thing without any tense (Past, present and future) and any word with a sensible meaning without tense.

Example	3rd Person Male		غائب مذکر		
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. (الإخلاص: 1)	He	وہ	Huwa	هُوَ	
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. (التوبة: 40)	They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا	
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (البقرة: 4)	They (all)	وہ سب	Hum	هُم	
		3rd Person Female		غائب مؤنث	
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. (التوبة: 40)	She	وہ	Hiya	هِيَ	
هُمَا سَيِّدَتَانِ	They (both)	وہ دونوں	Humaa	هُمَا	
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ. (البقرة: 187)	They (all)	وہ سب	Hunna	هُنَّ	
		2nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. (البقرة: 32)	You	آپ	Anta	أَنْتَ	
أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ. (القصص: 35)	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمَا	
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدة: 91)	You (all)	آپ سب	Antum	أَنْتُمْ	
		2nd Person Female		حاضر مؤنث	
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي. (البخاري: 4850)	You	آپ	Anti	أَنْتِ	
أَنْتُمَا طَالِبَتَانِ	You (both)	آپ دونوں	Antumaa	أَنْتُمَا	
أَنْتُنَّ طَالِبَاتٌ	You (all)	آپ سب	Antunna	أَنْتُنَّ	
		1st Person Male/Female		متکلم مذکر و مؤنث	
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (الانعام: 79)	I	میں	Ana	أَنَا	
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ. (الصف: 14)	We	ہم	Nahnu	نَحْنُ	

Example	3rd Person Male		غائب مذکر		
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. (التغابن: 1)	His	اس کا	Hu	هُ	
هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. (القصص: 19)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا	
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (البقرة: 7)	Their (all)	ان سب کا	Hum	هُم	
		3rd Person Female		غائب مؤنث	
لَهَا مَا كَسَبَتْ. (البقرة: 134)	Her	اس کا	Haa	هَا	
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. (النساء: 176)	Their (both)	ان دونوں کا	Humaa	هُمَا	
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. (البقرة: 29)	Their (all)	ان سب کا	Hunna	هُنَّ	
		2nd Person Male		حاضر مذکر	
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ. (آل عمران: 35)	Yours	آپ کا	Ka	كَ	
وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا. (القصص: 35)	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُهَا	
أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. (المائدة: 4)	Yours (all)	آپ سب کا	Kum	كُم	
		2nd Person Female		حاضر مؤنث	
اقْنُتِي لِرَبِّكِ. (آل عمران: 43)	Yours	آپ کا	Ki	كِ	
أَبُوكُمَا مُهَنْدِسٌ	Yours (both)	آپ دونوں کا	Kumaa	كُهَا	
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. (النساء: 11)	Yours (all)	آپ سب کا	Kunna	كُنَّ	
		1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. (البقرة: 41)	My	میرا	Yi	ي	
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. (البقرة: 127)	Our	ہمارا	Naa	نَا	

Near Distance/ أسماء الإشارة للقريب

vii

English	اردو	Roman	مثالیں	عربی	Sl.No.
This	یہ	Haaza	هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ. (ال عمران: 138)	هَذَا	1
These (both)	یہ دونوں	Haazaani	هَذَيْنِ خَصْمَيْنِ اِخْتَصِمُوا فِي رَيْبِهِمْ. (الحج: 19)	هَذَانِ	2
These (all)	یہ سب	Haa'ulaae	قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيِّعٌ فَلَا تَفْضَحُونِ. (الحجر: 68)	هَؤُلَاءِ	3
This	یہ	Haazihi	هَذِهِ تِاقَةُ اللَّهِ. (هود: 64)	هَذِهِ	4
These (both)	یہ دونوں	Haataani	هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ. (ابن ماجه: 2216) إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ (القصص: 27)	هَاتَانِ	5
These (all)	یہ سب	Haaulaae	قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ (هود: 78)	هَؤُلَاءِ	6

Far Distance/ أسماء الإشارة للبعيد

That	وہ	Zaalika	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. (البقرة: 2)	ذَلِكَ	1
Those (both)	وہ دونوں	Zaanika	فَذَانِكَ بُرْهَاتَانِ مِن رَّبِّكَ. (القصص: 32)	ذُنُك	2
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka	وَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰلِحُونَ. (البقرة: 5)	أُولَئِكَ	3
That	وہ	Tilka	تِلْكَ أُمَّةٌ. (البقرة: 134)	تِلْكَ	4
Those (both)	وہ دونوں	Taanika		تَانِكَ	5
Those (all)	وہ سب	Aulaaeka		أُولَئِكَ	6

Relative Pronouns/ أسماء الموصولة

viii

Who, That, Which	وہ شخص جو	Allazi	أَلَمْحَدِّثْ لَهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ. (الكهف: 1)	الَّذِي	1
Who, That, Which	وہ دو شخص جو	Allazaani	وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ. (النساء: 16)	الَّذَانِ	2
Who, That, Which	وہ سب لوگ جو	Allazeena	الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَرْمُونَ. (المعارج: 23)	الَّذِينَ	3
Who, That, Which	وہ عورت جو	Allati	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. (ال عمران: 131)	الَّتِي	4
Who, That, Which	وہ دو عورتیں جو	Allataani	الإمْرَأَتَانِ اللَّتَانِ تَنْظِفَانِ الْبَيْتَ.	اللَّتَانِ	5
Who, That, Which	وہ سب عورتیں جو	Allaati Allaaee	وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ. (النساء: 23) وَالَّتِي يَبْسُخُنَّ مِنَ الْمَجْهِيضِ. (الطلاق: 4)	الَّتِي الَّتِي	6
Who, that, which	وہ جو	Man	وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلِ. (غافر: 67)	مَنْ	7
What, that, which	وہ جو	Maa	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. (البقرة: 32)	مَا	8

Doer of action | Ismul Faa'il اسم الفاعل

ix

English	اردو	Roman	عربی
Masculine		مذکر	
Helper	مدد کرنے والا	Naasirun	نَاصِرٌ
Helpers (both)	مدد کرنے والے (دونوں)	Naasiraani	نَاصِرَانِ
Helpers (all)	مدد کرنے والے (سب)	Naasiroona	نَاصِرُونَ
Feminine		مونث	
Helper	مدد کرنے والی	Naasiratun	نَاصِرَةٌ
Helpers (both)	مدد کرنے والیاں (دونوں)	Naasirataani	نَاصِرَتَانِ
Helpers (all)	مدد کرنے والیاں (سب)	Naasiraatun	نَاصِرَاتٌ

Reciever of action | Ismul Maf'ool اسم المفعول

x

English	اردو	Roman	عربی
Masculine		مذکر	
One who was helped	جس کی مدد کی گئی	Mansoorun	مَنْصُورٌ
Both who were helped	جن دونوں کی مدد کی گئی	Mansooraaani	مَنْصُورَانِ
All who were helped	جن سب کی مدد کی گئی	Mansooroona	مَنْصُورُونَ
Feminine		مونث	
One who was helped	جس کی مدد کی گئی	Mansooratun	مَنْصُورَةٌ
Both who were helped	جن دونوں کی مدد کی گئی	Mansoorataani	مَنْصُورَتَانِ
All who were helped	جن سب کی مدد کی گئی	Mansooraatun	مَنْصُورَاتٌ

الفعل

AL-FEL - VERB

مثال:

English	اردو	Roman	صرفِ صغیر	فعل	Sl.No.
Understood	سمجھا	Aqala	عَقَلَ ، يَعْقِلُ ، عَقَلًا ، عَاقِلٌ ، إِعْقِلْ ، لَا تَعْقِلْ	عَقَلَ	1
Sent	بھیجا	B'asa	بَعَثَ ، يَبْعَثُ ، بَعَثًا ، بَاعِثُ ، إِبْعَثْ ، لَا تَبْعَثْ	بَعَثَ	2
Moved	دور کیا	B'auda	بَعَدَ ، يَبْعُدُ ، بَعْدًا ، بَاعِدْ ، أَبْعُدْ ، لَا تَبْعُدْ	بَعَدَ	3
Remembered	ذکر کیا	Zakara	ذَكَرَ ، يَذْكُرُ ، ذِكْرًا ، اذْكُرْ ، لَا تَذْكُرْ	ذَكَرَ	4
went	گیا	Zahaba	ذَهَبَ ، يَذْهَبُ ، ذَهَابًا ، ذَاهِبٌ ، اذْهَبْ ، لَا تَذْهَبْ	ذَهَبَ	5
Rebelled or transgressed	نافرمانی کیا	Fasaqa	فَسَقَ ، يَفْسُقُ ، فُسُوقًا ، فَاسِقٌ ، اُفْسُقْ ، لَا تَفْسُقْ	فَسَقَ	6
Forgiven	معاف کیا	Ghafara	غَفَرَ ، يَغْفِرُ ، غَفْرًا ، غَافِرٌ ، اِغْفِرْ ، لَا تَغْفِرْ	غَفَرَ	7
Over powered	غالب ہوا	Ghalaba	غَلَبَ ، يَغْلِبُ ، غَلْبًا ، غَالِبٌ ، اِغْلِبْ ، لَا تَغْلِبْ	غَلَبَ	8

تعریف: فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔
TAREEF : fel wo kalimah hai jo kisi kaam ke hone ya karne ko batae aur isme teeno zamaano me se koi ek zamana paya jaae.

DEFINITION : A word that represents an action or a state of being in any tenses (past, present and future)

تصريف فعل المضارع			
3rd Person Male		غائب مذکر	
He is doing / He will do	وہ کرتا ہے یا کرے گا	Yaf-a-lu	يَفْعَلُ
They (both) are doing / they will do	وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے	Yaf-a-laa-ni	يَفْعَلَانِ
They (all) are doing / They will do	وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے	Yaf-a-loona	يَفْعَلُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is doing/ She will do	وہ کرتی ہے یا کرے گی	Taf-a-lu	تَفْعَلُ
They (both) are doing / they will do	وہ دونوں کرتیں ہیں یا کریں گی	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
They (all) are doing / They will do	وہ سب کرتیں ہیں یا کریں گی	Yaf-al-na	يَفْعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are doing / You will do	تم کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-lu	تَفْعَلُ
You (both) are doing / You will do	تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
You (all) are doing / You will do	تم سب کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-loona	تَفْعَلُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are doing / You will do	تم کرتی ہو یا کرو گی	Taf-a-leena	تَفْعَلِينَ
You (both) are doing / You will do	تم دونوں کرتی ہو یا کرو گی	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
You (all) are doing / You will do	تم سب کرتی ہو یا کرو گی	Taf-al-na	تَفْعَلْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I am doing / I will do	میں کرتا ہوں یا کروں گا	Af-a-lu	أَفْعَلُ
We are doing / We will do	ہم کرتے ہیں یا کریں گے	Naf-a-lu	نَفْعَلُ

تصريف فعل الماضي			
3rd Person Male		غائب مذکر	
He did	اس نے کیا	Fa-a-la	فَعَلَ
they (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-laa	فَعَلَا
they (all) did	ان سب نے کیا	Fa-a-loo	فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She did	اس نے کیا	Fa-a-lat	فَعَلَتْ
they (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-la-taa	فَعَلَتَا
they (all) did	ان سب نے کیا	Fa-al-na	فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You did	تم نے کیا	Fa-al-ta	فَعَلْتَ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tu-maa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tum	فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
you did	تم نے کیا	Fa-al-ti	فَعَلْتِ
you (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tumaa	فَعَلْتُمَا
you (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tunna	فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I did	میں نے کیا	Fa-al-tu	فَعَلْتُ
We did	ہم نے کیا	Fa-al-naa	فَعَلْنَا

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل الامر

2nd Person Male		حاضر مذکر	
You do	تم کرو	If-al	اَفْعَلْ
You do (both)	تم دونوں کرو	If-a-laa	اَفْعَلَا
You do (all)	تم سب کرو	If-a-loo	اَفْعَلُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You do	تم کرو	If-a-lee	اَفْعَلِيْ
You do (both)	تم دونوں کرو	If-a-laa	اَفْعَلَا
You do (all)	تم سب کرو	If-al-na	اَفْعَلْنَ

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف فعل النهي

2nd Person Male		حاضر مذکر	
You don't do	تم مت کرو	Laa-taf-al	لَا تَفْعَلْ
You don't do (both)	تم دونوں مت کرو	Laa-taf-a-laa	لَا تَفْعَلَا
You don't do (all)	تم سب مت کرو	Laa-taf-aloo	لَا تَفْعَلُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You don't do	تم مت کرو	Laa-taf-alee	لَا تَفْعَلِيْ
You don't do (both)	تم دونوں مت کرو	Laa-taf-a-laa	لَا تَفْعَلَا
You don't do (all)	تم سب مت کرو	Laa-taf-alna	لَا تَفْعَلْنَ

Arshad Basheer Madani Notes

الحرف

AL-HARF PARTICLE

مثال: إلی (تک)، مِنْ (سے)۔

تعریف: حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے۔

Misaal: Ila (Tak), Min(se)

Tareef : Harf wo kalima hai jo Ism ya Fel ke saath milkar apna maana batae.

Introduction : A particle is a word which gives meaning when it combines with any noun or verb.

اسم، فعل اور حرف کی آسان مثال "آمَنْتُ بِاللَّهِ" میں اللہ پر ایمان لے آیا۔
(آمَنْتُ: فعل، بَاء: حرف اور اللہ: اسم ہے)

نوٹ: حروف عربی زبان میں کئی طرح کے ہیں، ان میں دو اہم قسمیں یہ ہیں: حروف جر، حروف عطف

NOTE: Huruf arabi zaban me kayee hain, Unme do Aham qisme ye hain: Huruf-e-jarr, Huruf-e-Atf.

NOTE: There are many particles in Arabic language, two types of particles are: Harf Jar and Harf Atf (Preposition & Conjunction).

حروف جر: باء و تاء و کاف و لام و واو و منذ و مذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی

حروف عطف: أما إما ثم او حتی ام اذا و فا اذا و فا اذا و فا

ENGLISH	اردو	ROMAN	مثالیں	حروف	Sl.No.
In/with	کے ساتھ	Baa	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - (سورة النمل : ۳۰)	بِ	۱
Swear	قسم	Taa	تَاللّٰهِ لَا كَيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ - (سورة الانبياء : ۵۷)	تِ	۲
Like/as	کی طرح، کے جیسا	Kaaf	مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ - (سورة النور : ۳۵)	كَ	۳
For/to	کے لیے	Laam	الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - (سورة الفاتحه : ۱)	لِ	۴
Swear	قسم	Waa	وَالْعَصْرِ - (سورة العصر : ۱)	وَ	۵
Since	جب سے	Munzu	مَا رَاَيْتَهُ مِنْذُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ	مِنْذُ	۶
Since	جب ، سے	Muz	مَا رَاَيْتَهُ مِنْذُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ	مِنْذُ	۷
Except	سوائے	Khalaa	جَاءَنِی الْقَوْمُ خَلَا زَيْدٌ	خَلَا	۸
Sometimes	کبھی کبھی	Rubba	رُبَّ مَبْلَغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ - (صحیح البخاری : ۱۷۴۱)	رُبَّ	۹
Except	سوائے	Haashaa	جَاءَنِی الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٌ	حَاشَا	۱۰
From/than	سے	Min	وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ - (سورة البقرة : ۴)	مِنْ	۱۱
Except	علاوہ	Adaa	جَاءَنِی الْقَوْمُ عَدَا زَيْدٌ	عَدَا	۱۲
In	میں	Fee	وَفِی السَّمَاۗءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُوْنَ - (سورة الذاریات : ۲۲)	فِی	۱۳
From/about	سے	An	وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا یَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا - (سورة البقرة : ۴۸)	عَنْ	۱۴
On/upon	پر، اوپر	Alaa	وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حُجُّ الْبَیْتِ مِنْ اَسْتِطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا - (سورة ال عمران : ۹۷)	عَلَى	۱۵
Until	تک	Hattaa	سلام ہی حتی مطلع الفجر - (سورة القدر : ۵)	حَتَّى	۱۶
To/Towards	تک ، کی طرف	Ilaa	اُدْعُ اِلَی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیْ اَحْسَنُ - (سورة النحل : ۱۲۵)	اِلَى	۱۷

تعریف : حروف جر یعنی اپنے بعد میں آنے والے اسماء کو جر دینے والے۔

TAREEF: Huruf-e-jarr yani apne baad aane waale huruf ko jarr dene wale.

DEFINITION: Words which gives kasra to the Nouns / words following it.

باء و تاء و کاف و لام و واو و مند و مذ خلا
عربک گرامر عربک گرامر
رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی شعر

ENGLISH	اردو	ROMAN	مثالیں	حروف	Sl.No.
Some	کچھ	Ammaa	قُلْ لِلذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ - (انعام: ۱۴۳)	أَمَّا	۱
Either	یا تو	Immaa	قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ. (اعراف: ۱۱۵)	إِمَّا	۲
So, then	پھر	Summa	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - (بقرہ: ۲۸)	ثُمَّ	۳
Or	یا	Aw	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَّسَحَابٌ - (بقرہ: ۱۹)	أَوْ	۴
Until	یہاں تک کہ	Hattaa	وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً. (بقرہ: ۵۵)	حَتَّىٰ	۵
Or	یا	Am	ءَاتَمَّ أَشَدَّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا - (النازعات: ۲۷)	أَمْ	۶
Then	جب	Izan	إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ - (البقرہ: ۱۴۵)	إِذَا	۷
And	اور	Waaau	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. (الفاتحہ: ۵)	وَ	۸
Then	پس	Faa	أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ - (عبس: ۲۱)	فَ	۹

تعریف: حروفِ عطف وہ حروف ہیں جو دو جملوں کے درمیان تعلق اور جوڑ پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔

TAREEF: Huruf-e-atf: wo huruf je doo jumloon ky darmiyan talluq awr jud paida karne k liye aate hain.

DEFINITION: A Conjunction is one which combines two sentences and relate them to each other.

English	اردو	Roman	قرآنی مثالیں	الاداة	S.no
Is / did	کیا	A	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ الانشراح أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ﴿٢١﴾ النجم	الهمزة	1
Is/ did	کیا	Hal	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴿١﴾ العاشية	هَلْ	2
What	کیا	Maazaa	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ البقرة	مَاذَا	3
what	کیا	Maa	وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ القدر	مَا	4
Who is	کون ہے	Mann zaa	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ الحديد	مَنْ ذَا	5
Who ever	کون	Mann	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ فصلت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴿١١٤﴾ البقرة	مَنْ	6
How much /many	کتنے	Kam	قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ المؤمنون	كَمْ	7
where	کہاں	Ayina	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ الانعام	أَيْنَ	8
From where	کہاں سے	Annaa	قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لِكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ آل عمران	أَنَّى	9
when	کب	ayyaana	أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ النحل	أَيَّانَ	10
how	کیسے	Kaifa	وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴿١٠١﴾ آل عمران	كَيْفَ	11
when	کب	Mataa	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ يونس	مَتَىٰ	12
O!	اے	Ayyu	فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴿الانعام: ٨١﴾	أَيُّ	13
why	کیوں	Limaaza	مَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَطْهَرُ، وَسَأَخْبِرُكُمْ لِمَاذَا بَدَأَ الْغُسْلُ؟ (صحيح ابن خزيمة: ١٧٥٥)	لِمَاذَا	14

أدوات الاستفهام : وہ حروف جو کسی نامعلوم چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے -

Adwat-e-istifhaam: wo huroof jo kisi naamalum cheez ki ma'rifat haasil karne ke liye astemaal hote hain aur jin ke zariye suwaal kiya jata hai.

Interrogative particle: It is used to ask a question and to know the unknown things.

أهل من ذا من ماذا
أهل ما ماذا
كم اين انى ايان
كيف متى اى لماذا

شعر

Exercise : 2

حروف تہجی کو ترتیب سے جوڑیں

Huruf-e-Tahji ko tarteeb se jodein

Join the Letters appropriately

	ط
	ث
	م
	ن
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ن
	و
	ر
	ء
	د
	خ
	ح
	ج
	م
	ن
	ق
	ف
	ی
	ہ

Exercise : 1

Read and Write

Padhein aur Likhein

پڑھیں اور لکھیں

					ا
					ب
					ت
					ث
					ج
					ح
					خ
					د
					ذ
					ر
					ز
					س
					ش
					ص
					ض
					ظ
					ن
					و
					ر
					ء
					د
					خ
					ح
					ث
					ج
					م
					ن
					ہ
					و
					ء
					ی

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise :

اسم، فعل اور حرف کو پہچانیے:
Ism, fel' aur harf ko pahchaniye

Define the noun, verb and particle (conjunction/prepositions)

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (1) الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (2) الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (3) مَا لِكِ یَوْمَ الدِّیْنِ (4) اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ (5) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (6) صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ (7) (سورة الفاتحة)

اسم	فعل	حرف
لله	اعوذ	ب

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 7

اسم، فعل اور حرف کی پانچ پانچ مثالیں "سورة الاعلیٰ" کی روشنی میں لکھیے۔
Ism, fel aur harf ki panch panch misaalen suratul Aalaa ki raushni me likhye
Give 5 Examples of Ism, Fel and Harf from Surah Aala

Hurf/Letters حرف	Fel/Verb فعل	Ism/Noun اسم

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 8

حروف عطف اور حرف جر کی پانچ پانچ مثالیں "سورة الغاشية" کی روشنی میں لکھیے۔
Huruf-e-atf aur huruf-e-jarr ki panch panch misaalen suratul ghashiya ki raushini me likhiye
Give 5 Examples of Ism, Fel and Harf from Surah Ghashiya.

حروف عطف کی مثالیں Huruf-e-atf ki misaalen/examples of conjunctions	حروف جر کی مثالیں Huruf-e-jarr ki misaalen/ examples of prepositons

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 9

Identify Conjunction and Preposition with its meaning

Huruf-e-atf aur huruf-e-jarr ko pahchaniye aur har ek ka mana bataiye

حروف عطف اور حروف جر کو پہچانے اور ہر ایک کا معنی بتائے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿6﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿7﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿8﴾ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿9﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿10﴾ (سورة البقرة)

ترجمہ Tarjamah/Translation	حروف عطف Huruf-e-atf/conjunction	ترجمہ Tarjamah/Translation	حروف جر Preposition/huruf-e-jarr

Vocabulary

Arshad Basheer Madani Notes

الأعداد

The
Numerals



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

 Two دو	إِثْنَانٍ ISNAAN	 One ایک	وَاحِدٌ WAAHID
 Four چار	أَرْبَعَةٌ ARBA'AH	 Three تین	ثَلَاثَةٌ SALAASAH

 Six چھ	سِتَّةٌ SITTAH	 Five پانچ	خَمْسَةٌ KHAMSAH
 Eight آٹھ	ثَمَانِيَةٌ SAMAANIYAH	 Seven سات	سَبْعَةٌ SAB'AH

 Ten دس	 عَشْرَةَ ASHARAH	 Nine نو	 تِسْعَةَ TIS'AH
 ASK ISLAM PEDIA MAKING THE ISLAMIC EDUCATION FROM SIMPLE TO COMPLEX EASY TO UNDERSTAND			



AskIslamPedia

Arshad Bashir Madani Notes



ألوان

AskIslamPedia

Arshad Bashir Madani Notes





Colors



AskIslamPedia

Arshad Bashir Madani Notes

 Black کالا	أَسْوَدُ ASWAD	 Red لال	أَحْمَرُ AHMAR
 Gray سرمئی	رَمَادِي RAMADEE	 White سفید	أَبْيَضُ ABYAZ

 Green ہرا	أَخْضَرُ AKHZAR	 Blue نیلا	أَزْرَقُ AZRAQ
 Purple جامنی	بَنَفْسَاجِي BANAFSAJEE	 Brown بھورا	أَسْمَرُ ASMAR

 Orange نارنگی	 بُرْتُقَالِي BURTUQALEE	 Pink گلابی	 وَرْدِي WARDI
 Turquoise فیروزه	 فَيْرُوزِي FAEROZI	 Yellow پیلا	 أَصْفَرُ ASFAR

Conversation



التعارف

Introducing Each Other

تعارف

السلام عليكم	اردو	اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ	عربی
May peace be on you	English	Assalaamu Alaikum	Roman

وَعَلَیْكُمْ السَّلَامُ	عربی	وعلیکم السلام	اردو
Wa Alaikumus salaam	Roman	And may peace be on you too	English

آپ کا نام کیا ہے؟	اردو	مَا اسْمُكَ؟	عربی
What is your name?	English	Masmuk?	Roman

إِسْمِي رَاشِدٌ	عربی	میرا نام راشد ہے	اردو
Ismee Rashid	Roman	My name is Rashid.	English

آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟	اردو	مَا اسْمُ وَالِدِكَ؟	عربی
What is your father's name?	English	Masmu waalidik?	Roman

إِسْمُ وَالِدِي حَنِيفٌ	عربی	میرے والد صاحب کا نام حنیف ہے۔	اردو
Ismu walidi Haneef	Roman	My father's name is Haneef	English

آپ کہاں رہتے ہیں؟	اردو	أَيْنَ تَسْكُنُ؟	عربی
Where do you live?	English	Aina taskun?	Roman



عربی

أَسْكُنُ فِي دِلْهِی

AskIslamPedia میں دہلی میں رہتا ہوں

Roman

Askunu fi Delhi

English

I live in Delhi

آپ کا پتہ کیا ہے؟

اردو

مَا هُوَ عُنْوَانُكَ؟

عربی

What is your address?

English

Maa huwa unwaanuk

Roman



عربی

عُنْوَانِي.....

اردو

میرا پتہ ہے.....

Roman

Unwaani...

English

My address is

آپ کی عمر کیا ہے؟

اردو

كَمْ عُمْرُكَ؟

عربی

What is your age?

English

Kam umruk?

Roman



عربی

عُمْرِي عِشْرُونَ سَنَةً

اردو

میری عمر بیس سال ہے

Roman

Umri ishroona sanah

English

My age is twenty years.

آپ کی قومیت کا ہے؟

اردو

مَا هِيَ جِنْسِيَّتُكَ؟

عربی

What is your nationality?

English

Maa hiya jinsiyyatuk?

Roman



عربی

أَنَا هِنْدِيٌّ

اردو

میں ہندوستانی ہوں

Roman

Ana hindi

English

I am an Indian.

آپ کا مذہب کیا ہے؟

اردو

مَا دِينُكَ؟

عربی

What is your religion?

English

Maa deenuk?

Roman



عربی

أَنَا مُسْلِمٌ

اردو

میں مسلمان ہوں

Roman

Ana muslim

English

I am a Muslim

آپ کا پیشہ کیا ہے؟

اردو

مَا هِيَ مِهْنَتُكَ؟

عربی

What is your occupation?

English

Maa hiya mihnatak?

Roman



عربی

أَنَا تِلْمِيذٌ

AskIslamPedia میں طالب علم ہوں

Roman

Ana tilmeez

English

I am a student.



عربی

أَنَا هُنَا مُنْذُ أُسْبُوعٍ

اردو

میں یہاں ایک ہفتہ سے ہوں

Roman

Ana huna munzu usboo

English

I have been here for a week



عربی

لَا، بَلْ قَدْ أَتَيْتُ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ

اردو

نہیں، میں گذشتہ سال بھی آیا تھا

Roman

Laa, bal qad ataetu fis sanatil maaziyah

English

No, I came last year also.



عربی

نَعَمْ هَذِهِ الْمَدِينَةُ تُعْجِبُنِي جِدًّا.

اردو

ہاں! یہ شہر مجھے بہت پسند ہے

Roman

Na'am haazihil madeenatu tu'jibuni jiddan

English

Yes, I like this city very much.



عربی

أَتَيْتُ مِنْ حَيْدَرَابَادٍ

اردو

میں حیدرآباد سے آیا ہوں

Roman

Ataitu min Hyderabad

English

I have come from Hyderabad



عربی

أَتَيْتُ هُنَا مِنْ كَيْفِ أَيْنَ؟

اردو

AskIslamPedia

لِمَاذَا أَتَيْتَ هُنَا؟

Roman

Why have you come here?

English

Limaaza ataita hunaa?

Roman



عربی

أَتَيْتُ هُنَا لِيُشْغَلِ.

Roman

Ataitu hunaa li shughl

اردو

میں یہاں کام سے آیا ہوں

English

I have come here for some work

کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟

اردو

هَلْ تَعْرِفُنِي؟

عربی

Do you know me?

English

Hal ta'rifuni?

Roman



عربی

نَعَمْ، أَنَا أَعْرِفُكَ

Roman

Na'am, ana a'rifuk

اردو

ہاں ! میں آپ کو جانتا ہوں۔

English

Yes, I know you

کیا آپ شادی شدہ ہیں؟

اردو

هَلْ أَنْتَ مُتَزَوِّجٌ؟

عربی

Are you married?

English

Hal anta mutazawwij?

Roman



عربی

نَعَمْ أَنَا مُتَزَوِّجٌ

Roman

Na'am ana mutazawwij

اردو

جی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔

English

Yes, I am married

کیا آپ کے بچے ہیں؟

اردو

هَلْ عِنْدَكَ أَوْلَادٌ؟

عربی

Do you have children?

English

Hal indaka aulaad?

Roman



عربی

نَعَمْ، عِنْدِي ثَلَاثَةٌ أَوْلَادٍ، ابْنَانِ وَبِنْتٌ

Roman

Na'am indi salaasatu aulaad ibnaan wa bint

اردو

ہاں میرے تین بچے ہیں، دو بیٹے اور ایک بیٹی۔

English

Yes, I have three children, two sons and one daughter



عربی

أَسْتَأْذِنُكَ الْآنَ

Roman

Asta'zinukal aan

اردو

اب میں اجازت چاہتا ہوں

English

I take leave of you now

ان شاء اللہ جلد ہی ملاقات ہوگی

اردو

أَرْجُو أَنْ أَرَاكَ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

عربی

I hope to see you shortly if Allah wills.

English

Arjoo an araaka qareeban In-Shaa-Allaah

Roman

الحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات

